

تراشنانہ سے اوزار کسی کے لوہے انہیں کرے استعمال لئے کے اُس ٹو پتھر جو بناٹا۔ گاہ قربان لئے کے خدا اپنے رب وہاں

6	אֲבָנִים	שְׁלֹמֹת	תְּבִנָּה	אֶת־	מִזְבֵּחַ	יְהוָה	אֵלֶיךָ	וְהַעֲלִיתָ	עָלָיו	עֹלֹת
	پتھر	سابت	بنا	—	قربان-گاہ	خداوند-کا	تیرے-خدا-کا	اور-چڑھا	اُس-پر	سوختنی-قربانیاں
	H0068	H8003	H1129	H0853	H4196	H3068	H0430	H5927		

لִיהוָה
خداوند-کے-لیے
אֵלֶיךָ:
تیرے-خدا-کے-لیے
[H3068](#)
[H0430](#)

کر-پیش قربانیاں والی ہونے بہسم کو خدا اپنے رب پر گاہ قربان کر۔ استعمال پتھر سالم صرف

7	וְזָבַחְתָּ	שְׁלָמִים	וְאֶכְלָתָ	שֵׁם	וְשִׂמַּחְתָּ	לְפָנַי	יְהוָה	אֵלֶיךָ:
	اور-ذبح-کر	سلامتی-کی-قربانیاں	اور-کھا	وہاں	اور-خوش-بو	سامنے	خداوند-کے	تیرے-خدا-کے
	H2076	H8002	H0398	H8033	H8055	H6440	H3068	H0430

منا-خوشی کر کھا حضور کے خدا اپنے رب وہاں انہیں چڑھا۔ پر اُس بھی قربانیاں کی سلامتی

8	וְכַתְּבֶתָּ	עַל־	הָאֲבָנִים	אֶת־	כָּל־	דְּבָרֵי	הַתּוֹרָה	הַזֹּאת	בְּאֵר	הַיֵּטֵב:	ס
	اور-لکھ	پر	پتھروں-پر	—	سب	باتیں	توریت-کی	اس	صاف	اچھی-طرح	[فقہہ]
	H3789	H0068	H0853	H3605	H1697	H8451	H2063	H0874	H3190		

جائیں۔ لکھے صاف صاف الفاظ تمام کے شریعت پر پتھروں گئے کئے کھڑے وہاں

9	וַיְדַבֵּר	מֹשֶׁה	וְהַכֹּהֲנִים	הַלְוִיִּם	אֵל	כָּל־	יִשְׂרָאֵל	לְאַמֵּר	וְהִסְכַּת	וְשִׁמְעוּ	יִשְׂרָאֵל
	اور-بولا	موسیٰ-نے	اور-کابنوں	لاویوں	سے	سب	اسرائیل	کہکر	خاموش-رہ	اور-سن	اسرائیل
	H1696	H4872	H3548	H3881	H0413	H3605	H3478	H0559	H5535	H8085	H3478

הַיּוֹם
آج
יְהוָה
یہ
תו-بو-گیا-بے
נְהִייתָ
قوم
לְעַם
خداوند-کے-لیے
לִיהוָה
تیرے-خدا-کے-لیے
אֵלֶיךָ:
[H3117](#)
[H2088](#)
[H1961](#)
[H0430](#)
[H3068](#)

بے، گیا بن قوم کی خدا اپنے رب ٹو اب سن۔ سے خاموشی اسرائیل، اے کہا، سے اسرائیلیوں تمام کر مل سے اماموں کے قبیلے کے لاوی نے موسیٰ پھر

10	וְשִׁמְעֶתָ	בְּקוֹלִי	יְהוָה	אֵלֶיךָ	וְעָשִׂיתָ	אֶת־	מִצְוֹתַי	וְאֶת־	חֻקֵּי	אֲשֶׁר
	اور-سن	آواز	خداوند-کی	تیرے-خدا-کی	اور-کر	—	اُس-کے-حکموں	اور	اُس-کے-احکام	جو
	H8085	H3068	H0430	H0853	H4687	H0853	H2706			

אֲנֹכִי
میں
חکم-دیتا-ہوں-تجھے
הַיּוֹם:
آج
[فقہہ]
[H0595](#)
[H6680](#)
[H3117](#)

ہوں۔ ربا دے آج تجھے میں جو کر عمل پر احکام اُن کے اُس اور رہ بردار فرماں کا اُس لئے اِس

11	וַיִּצְוֶנּוּ	מֹשֶׁה	אֶת־	הָעָם	בְּיָוֵם	הַהוּא	לְאַמֵּר:
	اور-حکم-دیا	موسیٰ-نے	—	قوم-کو	اُس-دن	اُس	کہکر
	H6680	H4872	H0853	H3117	H1931	H0559	

کہا، کر دے حکم کو اسرائیلیوں نے موسیٰ دن اُسی

12	אֵלֶיךָ	יַעֲמֹדוּ	לְבָרְכֶךָ	אֶת־	הָעָם	עַל־	הַר	גְּרִזִּים	בְּעֶבְרָתְכֶם	אֶת־	הַיַּרְדֵּן
	یہ	کھڑے-ہونگے	برکت-دینے-کو	—	قوم-کو	پر	پہاڑ	گریزیم	جب-پار-کرو-تم	—	یردن
	H0428	H5975	H1288	H0853	H3117	H2022	H1630	H1630	H0853	H3383	

שְׁמֵעוֹן
שמعون
וְלָנוּ
اور-لاوی
וְיְהוּדָה
اور-یہوداہ
וְיִשָּׁשָׁר
اور-یساکار
וְיוֹסֵף
اور-یوسف
וּבְנֵימִן:
[H8095](#)
[H3878](#)
[H3063](#)
[H3485](#)
[H3130](#)
[H1144](#)

بولیں۔ الفاظ کے برکت وہ وہاں جائیں۔ بو کھڑے پر پہاڑ گریزیم قبیلے کے یمن بن اور یوسف اِسکار، یہوداہ، لاوی، שמعون، بعد کے کرنے پار کو یردن دریائے

13	וְאֵלֶּה	יַעֲמֹדוּ	עַל-	הַקְּלָלָה	בְּהָר	עֵיבָל	רְאוּבֵן	גֵּד	וְאֲשֶׁר	וּזְבוּלוֹן	דָּן
	اور-یہ	کھڑے-ہونگے	پر	لعنت-کے-لیے	پہاڑ-پر	عیبال	روبن	جد	اور-آشر	اور-زبولون	دان
	H0428	H5975		H7045	H2022	H7205	H1410	H0836	H2074	H1835	

وְנִפְתְּלוּ:
اور-نفتالی
[H5321](#)

بولیں۔ الفاظ کے لعنت کر ہو کھڑے پر پہاڑ عیبال نفتالی اور دان زبولون، آشر، جد، روبن، یعنی قبیلے باقی

14	וְעַנּוּ	הַלְוִיִּם	וְאָמְרוּ	אֶל-	כָּל-	אִישׁ	יִשְׂרָאֵל	קוֹל	רָם:	ס
	اور-جواب-دییں	لاوی	اور-کہیں	سے	پر	آدمی	اسرائیل-کے	آواز	بلند	[فقہرہ]
	H3881	H0559	H0413	H3605	H0376	H3478				

کہیں، سے آواز اونچی کر ہو مخاطب سے لوگوں تمام لاوی پھر

15	אָרוֹר	הָאִישׁ	אֲשֶׁר	יַעֲשֶׂה	פֶּסֶל	וּמִסְכָּה	תּוֹעֵבֹת	יְהוָה	מַעֲשֵׂה	יְדִי
	ملعون	آدمی	جو	بنائے	یا-ڈھلائی-ہوئی-مورت	مکروہ	خداوند-کا	کام	باتھوں-کا	
	H0779	H0376		H6459		H8441	H3068	H4639	H3027	

	כָּרֶשׁ	וְשֵׁם	בְּסֹתֵר	וְעַנּוּ	כָּל-	הָעָם	וְאָמְרוּ	אָמֵן:	ס
	کاریگر-کا	اور-رکھے	پوشیدہ-میں	اور-جواب-دییں	ساری	قوم	اور-کہیں	آمین	[فقہرہ]
	H2796			H3605			H0559	H0543	

لوگ سب میں جواب ہے۔ گھن سے چیز ایسی ہوئی بنی سے ہاتھوں کے گر کاری کو رب کرے۔ کھڑا سے چپکے کر ڈھال یا کر تراش بُت جو لعنت پر اُس
[آمین! کہیں،

16	אָרוֹר	מִקְלָה	אָבִיו	וְאָמוֹ	וְאָמַר	כָּל-	הָעָם	אָמֵן:	ס
	ملعون	جو-بے-عزت-کرے	اپنے-باپ-کی	اور-اپنی-ماں-کی	اور-کہے	ساری	قوم	آمین	[فقہرہ]
	H0779	H7034	H0001	H0517	H0559	H3605		H0543	

[آمین! کہیں، لوگ سب کرے۔ تحقیق کی ماں یا باپ اپنے جو لعنت پر اُس کہیں، لاوی پھر

17	אָרוֹר	מִסְגֵּי	גְבוּל	רַעֲיוֹ	וְאָמַר	כָּל-	הָעָם	אָמֵן:	ס
	ملعون	جو-بنائے	حد	اپنے-پڑوسی-کی	اور-کہے	ساری	قوم	آمین	[فقہرہ]
	H0779	H5253	H1366	H7453	H0559	H3605		H0543	

[آمین! کہیں، لوگ سب کرے۔ پیچھے آگے حدود کی زمین کی پڑوسی اپنے جو لعنت پر اُس

18	אָרוֹר	מִשְׁנֵה	עוֹר	בְּדָרְדָר	וְאָמַר	כָּל-	הָעָם	אָמֵן:	ס
	ملعون	جو-بھٹکائے	اندھے-کو	راستے-میں	اور-کہے	ساری	قوم	آمین	[فقہرہ]
	H0779	H7686	H5787	H1870	H0559	H3605		H0543	

[آمین! کہیں، لوگ سب جائے۔ لے پر راستے غلط اُسے کے کر رہنمائی کی اندھے کسی جو لعنت پر اُس

19	אָרוֹר	מִטָּה	מִשְׁפָּט	גֵּר-	יְתוּם	וְאֶלְמָנָה	וְאָמַר	כָּל-	הָעָם
	ملعون	جو-ٹیڑھا-کرے	انصاف	پردیسی-کا	یتیم-کا	اور-بیوہ-کا	اور-کہے	ساری	قوم
	H0779	H5186	H4941	H1616	H3490	H0490	H0559	H3605	H0543

[آمین! کہیں، لوگ سب رکھے۔ نہ قائم حقوق کے بیواؤں یا یتیموں پردیسیوں، جو لعنت پر اُس

20	אָרוֹר	שֹׁכֵב	עַם-	אִשְׁתּ	אָבִיו	כִּי	גֹלָה	כִּנֹּר	וְאָמַר	כָּל-	הָעָם
	ملعون	جو-لیٹے	ساتھ	بیوی	اپنے-باپ-کی	کیونکہ	کھولا	دامن	اور-کہے	ساری	قوم
	H0779	H7901	H0802	H0001	H0001	H1540	H3671		H0559	H0001	H3605

אָמֵן:
[فقہرہ]
آمین
[H0543](#)

|| آمین! کہیں، لوگ سب ہے۔ || کرتا ہے حرمتی کی باپ اپنے وہ کیونکہ جائے، ہو بستر ہم سے بیوی کی باپ اپنے جو لعنت پر || اُس

21	אָרוֹר	שָׁכַב	עִם	כָּל	בְּהִמָּה	וְאָמַר	כָּל	הָעַם	אָמֵן:	ס
	ملعون	جو-لیٹے	ساتھ	کسی	جانور	اور-کہے	ساری	قوم	آمین	[فقرہ]
	H0779	H7901		H3605	H0929	H0559	H3605		H0543	

|| آمین! کہیں، لوگ سب رکھے۔ || تعلق جنسی سے جانور جو لعنت پر || اُس

22	אָרוֹר	שָׁכַב	עִם	אֶחָיו	בֵּת	אָבִיו	אָו	בֵּת	אָמֵן:	כָּל
	ملعون	جو-لیٹے	ساتھ	اپنی-بہن	بیٹی	اپنے-باپ-کی	یا	بیٹی	اپنی-ماں-کی	ساری
	H0779	H7901		H0269	H1323	H0001		H1323	H0517	H3605

הָעַם
قوم
אָמֵן:
آمین
ס
[فقرہ]
[H0543](#)

|| آمین! کہیں، لوگ سب جائے۔ || ہو بستر ہم سے بیٹی کی ماں اپنی یا بیٹی کی باپ اپنے بہن، سگی اپنی جو لعنت پر || اُس

23	אָרוֹר	שָׁכַב	עִם	הַתְּנָחוּ	וְאָמַר	כָּל	הָעַם	אָמֵן:	ס
	ملعون	جو-لیٹے	ساتھ	اپنی-ساس	اور-کہے	ساری	قوم	آمین	[فقرہ]
	H0779	H7901		H0559	H3605			H0543	

|| آمین! کہیں، لوگ سب جائے۔ || ہو بستر ہم سے ساس اپنی جو لعنت پر || اُس

24	אָרוֹר	מָכַה	רַעְיוֹ	בְּסִתָּר	וְאָמַר	כָּל	הָעַם	אָמֵן:	ס
	ملعون	جو-مارے	اپنے-پڑوسی-کو	پوشیدہ-میں	اور-کہے	ساری	قوم	آمین	[فقرہ]
	H0779	H5221	H7453	H0559	H3605			H0543	

|| آمین! کہیں، لوگ سب دے۔ || کر قتل کو وطن ہم اپنے سے چپکے جو لعنت پر || اُس

25	אָרוֹר	לָקַח	שָׂחַד	לְהַכּוֹת	נִפְשׁוֹ	דָּם	נִקְוֵי	וְאָמַר	כָּל	הָעַם	אָמֵן:	ס
	ملعون	جو-لے	رشوت	مارنے-کو	جان	خون	بے گناہ	اور-کہے	ساری	قوم	آمین	[فقرہ]
	H0779	H3947	H7810	H5221	H5315	H1818	H0559	H3605			H0543	

|| آمین! کہیں، لوگ سب کرے۔ || قتل کو شخص بے قصور کسی کر لے پیسے جو لعنت پر || اُس

26	אָרוֹר	אָשַׁר	לֹא	יָקִים	אֶת	הַבְּרִי	הַתּוֹרָה	הַזֹּאת	לְעִשׂוֹת	אוֹתָם	וְאָמַר	כָּל
	ملعون	جو	نہیں	قائم-کرے	—	باتیں	توریت-کی	اس	کرنے-کو	انہیں	اور-کہے	ساری
	H0779		H3808	H0853		H1697	H8451	H2063		H0853	H0559	H3605

הָעַם
قوم
אָמֵן:
آمین
פ
[فقرہ]
[H0543](#)

|| آمین! کہیں، لوگ سب کرے۔ || عمل پر ان نہ رکھے، نہ قائم باتیں کی شریعت اس جو لعنت پر || اُس